



Created by Wilson Joseph
from Noun Project





Created by Master Pixel
from Noun Project



Created by Gabriel Ciccarello
from Noun Project



Created by Alexander Chermakov
from Noun Project



Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanci)	Urdu
	Basic Conversation		Βασική συνομιλία / Vasikí Synomilía		بنیادی بات چیت
مرحبا / Marhaba	Hello	سلام	Γεια / Ya	Merheba	سلام
صباح الخير / Sabáh al-khayr	good morning	صبح بخیر	Καλημέρα / Kaliméra	Roj baş	صبح بخیر
مساء الخير / massa Alchayr Masa al-khayr	good evening	شب بخیر	Καλό βράδυ / Kaló vrádi	Êvar baş	شب بخیر
مع السلامة / ma'a 's-saláma / bye	goodbye	خداحافظ	Εἰς το επανιδείν / Is to epanidín	Bi xatirê te/ Oxir be	خدا حافظ
المعذرة / عفوا / afwan, law samáht	sorry / excuse me	ببخشید	Συγγνώμη / Signómi	Bibore	معاف کیجیے
من فضلك / عفوا / lou tismah/Afwan	please	لطفاً	Παρακαλώ / Parakaló	Ji kerema xwe re/ Kerem ke	مہربانی
شكرا / Shukran	thank you / thanks	مرسی	Ευχαριστώ / Efharistó	Spas	شکریہ
أهلاً وسهلاً / Ahlan wa sahlan	you're welcome [response to thank you / thanks]	خواہش میکنم	Τίποτα, παρακαλώ / Típotá	ser çavan	آپ کو خوش آمدید / آپ کا شکریہ
اسمي / ismi	my name is...	اسم ... است	Ονομάζομαι... / Onomázome...	Navê min ...(y)e.	میرا نام... ہے
ما اسمك؟ / Shou Esmak	What is your name?	اسمتون چیه؟	Πώς ονομάζεστε; / Pós onomázeste?	Navê te çi ye?	آپ کا نام کیا ہے؟
انا من / Ana min	I'm from...	من از ----- می آیم	Κατάγομαι από... / Katágome apó...	Ez ji ...me.	میں ----- سے آئی ہوں / میں ----- سے آیا ہوں
عائلة / اسرة / Oussra / Aa'ila	family	خانواده	Οικογένεια / Ikogènia	malbat	خاندان
هذا زوجي / hada zawji / da zawji	this is my husband	این شوهرمه	Αυτός είναι ο άντρας μου / Aftós íne o ándras mu	Ev mêrê min e.	یہ میرا شوہر ہے
هذه زوجتي / hadihi zawjati / di mara'ti	my wife	زنم	(Αυτή είναι) η γυναίκα (μου) / (Aftí íne) i ginéka (mu)	Jina min	میری بیوی
اطفالي / Attfali	my children	بچہ هام	(Αυτά είναι) τα παιδιά (μου) / (Afta íne) ta pediá (mu)	Zarokên min	میرے بچے
ابنتي / binti	my daughter	دخترم	(Αυτή είναι) η κόρη (μου) / (Aftí íne) i kóri (mu)	Keça min	میری بیٹی

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanji)	Urdu
ابني / ibni	my son	پسر	(Αυτός είναι) ο γιος (μου) / (Aftós íne) o giós (mu)	Lawê min	میرا بیٹا
طفلي / tifli	my baby	نوزاد	(Αυτό είναι) το μωρό (μου) / (Aftó íne) to moró (mu)	Pitika min	میرا بچہ
هذا أخي / hadha akhi	this is my brother	این برادر	Αυτός είναι ο αδερφός μου. / Aftós íne o aderfós mu.	Ev birayê min e.	یہ میرا بھائی ہے
هذه أختي / hadhihi ukhti	this is my sister	این خواہر	Αυτή είναι η αδερφή μου. / Aftí íne i aderfí mu	Ev xwişka min e.	یہ میری بہن ہے
هذا أبي / hadha abi	this is my father	این پدر (بابا)	Αυτός είναι ο πατέρας μου / Αυτός είναι ο μπαμπάς μου / Aftós íne o patéras mu/Aftós íne o babás mu	Ev bavê min e.	یہ میرے باپ / والد / ابو ہیں
هذه أمي / hathihi ummi / Hai Mama	this is my mother	این مادر (ماما)	Αυτή είναι η μητέρα μου / η μαμά μου / Aftí íne i mitéra mu/Aftí íne i mama mu	Ev diya min e.	یہ میری والدہ / امی ہیں۔
انا جائع / ana jaw'an	I'm hungry.	گشنه ام	Πεινάω / Pináo	Ez birçî me	مجھے بھوک لگی ہے
طفلي جائع / tifli jaw'an	(My child) is hungry	بچہ ام گرسنه است	(Το παιδί μου) πεινάει / (To pedí mu) pinái	(Zarokê min) birçî ye	میری بچی بھوکی ہے۔ میرا بچا بھوکا ہے۔
أريد أن أشرب / ash'ur bi'l-'atsh / Atschaan	I'm thirsty	تشنمه	Διψάω. / Dipsáo	Ez tí me	مجھے پیاس لگی ہے۔
ماء / Ma'a	water	آب	Νερό / Neró	av	پانی
هل عندك؟ / indak...?	Do you have...	دارین؟...	Μήπως έχετε ...; / Μίπως έχετε...?	...te heye?	کیا آپ کے پاس ہے؟
این...؟ / ayn? fayn? / ouin	Where is..?	کجاست؟...	Πού είναι...; / Pu íne...?	...li kuderê ye?	... کہاں ہے؟
أين الحمام؟ / ayna 'l-hammam	Where is the toilet? / Where is the bathroom?	توالت (دستشویی) کجاست؟	Πού είναι η τουαλέτα/το μπάνιο; / Pu íne i tualéta/ to bânio?	Tûwalet/ serşok li ku derê ye?	غسل خانہ کدھر ہے؟
أنا بحاجة للاستحمام / Bihaja ana athamam	I need to take a shower	به حمام نیاز (دارم)	Πρέπει να κάνω ντους / Prépi na káno duz	Divê ez serê xwe bişom	مجھے نہانے کی ضرورت ہے۔
این باسٹناعتی الاستحمام؟ / Ayna Bi Istitaa'ati elta7amom / ouin Alhammam	Where can I take a shower?	کجا می تونم دوش بگیرم، حمام کنم؟	Πού μπορώ να κάνω ντους; / Pu boró na káno duz?	Li ku derê ez dikarim serê xwe bişom?	میں کہاں نہا سکتی / سکتا ہوں؟

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanji)	Urdu
فوطة صحية / Fouta Sohiya	sanitary pad / towel	نوار بهداشتی	Σερβιέτα / Serviéta	Ped	سینیٹری پیڈ / تولیہ / کپڑے
حفاظة اطفال / hafaada, bambers	diaper / nappy	پوشک	Πάνα / Pána	Cilik	لنگوٹ / ڈاپیر
أنا بحاجة لاجراء مكالمة / Bihaja ijra'a moukalama	I need to make a phone call	باید تلفن کنم (زنگ بزئم)	Πρέπει να τηλεφωνήσω / Πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα / Prépi na tilefoníso / Prépi na káno éna tilefónima	Divê ez telefon bikim	مجھے فون کرنا ہے۔
این بامکانی ان اصلی؟ / ayna bi 'imkani an 'usalli	Where can I pray?	کجا می تونم نماز بخونم؟	Πού μπορώ να προσευχηθώ; / Pu boró na prosefthithó	Li ku derê ez dikarim nimêj bikim	میں کہاں نماز پڑھ سکتی/سکتا ہوں؟
من این استطیع ان اشتری،؟ / Ayna youmkinouni elshira'a?	Where can I buy_____?	کجا میتونمبخرم؟	Πού μπορώ να αγοράσω ... ; / Pu boró na agoráso...?	Ez dikarim li ku derê ...bistînim?	میں کہاں خرید سکتی/سکتا ہوں؟
این اجد / wain bla'ei...?	Where can I find_____?	کجا میتونم پیدا کنم؟	Πού μπορώ να βρω ... ; / Pu boró na vro...?	Ez dikarim li ku derê...bibînim? کہاں ملے گا/ ملے گی؟
كم الساعة؟ / kam al-sa'ah	What time is it?	ساعت چندہ؟	Τι ώρα είναι; / Ti óra íne?	Saet çend e?	کتنا بجا ہے؟
انا\نحن بحاجة للنوم / Ana/ Nahnu bihaja liinawm	I (we) need to sleep	نیاز یہ خوابیدن دارم، داریم	Πρέπει να κοιμηθώ / πρέπει να κοιμηθούμε [pɪ] / Prépi na kimithó/Prépi na kimithúme [pɪ]	Divê ez razim	مجھے(بمیں) سونا ہے
این المترو / Ayn almetro? / ouin Almahatta	Where is the subway/under ground?	مترو کجاست؟	Πού είναι το μετρό; / Pu íne to metro?	Metro li kû ye?	مترو/سب وے/اوبان کہاں ہے؟
لا أملك نقوداً / laysa maay maal. La amliq nakuda / Ma endi Massari	I don't have any money.	پول ندارم	Δεν έχω χρήματα / Den ého hrímata	Perê min tune ye.	میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔
هل تتكلم اللغة ال...؟ / hal tatakallam al-lugha. / Aya Lugha Tehki	Do you speak...	صحبت می... کنین؟	Μιλάτε...; / Miláte...?	Gelo tudiaxivî?	کیا آپ ... بولتے/بولتی ہیں؟
لغتي الامانية ضعيفه / Almaniyati da'ifa / Ma Behki Allmani	I don't speak (English) very well.	آلمانییم(خیلی) خوب نیست	Δεν μιλάω τόσο καλά _____ (ελληνικά) / Den miláo τόσο kalá _____ (elliniká).	Ez Elmanî (baş) nizanim.	میری جرمن/انگریزی بہت اچھی نہیں ہے۔
هل يمكنك كتابة ذلك؟ / Hal yomkenak ketabat zalek? Fik Tiktba	Can you write that down for me?	می شہ اینو برام بنویسین؟	Μπορείτε να το γράψετε; / Boríte na to grápsete?	Gelo tu dikarî vê binivîsi?	یہ آپ لکھ سکتے ہیں؟
لم أفهم / la afham, ma bi-fahmish / Ma fhimt	I don't understand	نمی فہم	Δεν το καταλαβαίνω. / Den to katalavéno	Ez vê fêh nakim	مجھے سمجھ نہیں آیا

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanji)	Urdu
النجدہ! إساعدنى من فضلك / an-najda! sá'idni law samahta	Help! / Please help me!	كمك	Βοήθεια! / Παρακαλώ, βοηθήστε με! / Voithia! / Parakaló voithiste me	Hewara!/Ji kerema xwe alîkarîya min bike	بچاو! / امیری مدد کیجیئے
لا اعرف / ma bi-arifsh / Ma Ba'rif	I don't know	نمی دونم	Δεν ξέρω / Den kséro	Ez nizanim.	مجھے نہیں معلوم
ماذا حدث؟ / Matha alathi hassal? / Matha hassall? / schou sarr / sho sar	What happened?	چی شدہ؟	Τι συνέβη; / Ti sinévi?	Çi bû?	کیا ہوا؟
أنا بردان / Ana bardan	I am cold/ freezing	سردمہ	Κρυώνω / Έχω ξεπαγιάσει / Krióno / Ého ksepagiási	Min sar e.	مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔
أنا سعيد / Ana sa'id / Mabssout	I'm happy.	خوشحالم	Χαίρομαι / είμαι ευτυχισμένος / Hérome / íme eftihisménos [m]	Ez keyfxweş im.	میں خوش ہوں۔
أنا خائف / Ana bi-khaf	I'm scared.	می ترسم	Φοβάμαι / Fováme	Ez ditirsim.	مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
أنا حزين / Ana hazín	I'm sad.	ناراحتم	Είμαι λυπημένος (m) / Είμαι λυπημένη (f) / Íme lipiménos (m) / Íme lipiméni (f)	Ez xemgîn im.	میں اداس ہوں
أكن لك الود / Ana bai'zak	I like you.	دوست دارم	Μου αρέσεις / Mu arésis	Kêfa min ji te re tê.	تم مجھے پسند ہو۔
لا تقلق / La taqlaq / Mouch Mouchkila / Mou Mschkil	Don't worry	نگران نباشین	Μην ανησυχείς / Mîn anisihís	Mitala neke.	فکر نا کریں
أنا بحاجة لتحديد موعد / Ana bihaja ila maw'ed	I would like an appointment.	میخوام یک قرار بگیرم	Χρειάζομαι ένα ραντεβού / Hriázome éna randevú	Civan hewce ye	مجھے اپائنٹمنٹ/ملاقات کا وقت چاہیئے۔
أين الغرفة رقم / wyna raqm elghourfa	Where is room number ___?	اتاق شماره --- کجاست؟	Πού είναι το δωμάτιο ___; / Pu ine to domátio ___?	Odeya bi nûmerê li ku ye?	کمرہ نمبر کہاں ہے۔
أين مركز الاستقبال / أين مركز التسجيل؟ / wain markaz eltassjil	Where is the registration centre?	مركز ثبت کجاست؟	Πού βρίσκεται το κέντρο απογραφής/μητρώου; / Pu vriskete to kèntro apografis/mitròu?	Navenda serlêdanê li ku ye?	رجسٹریشن سنٹر کہاں ہے؟
عليكم ان تنتظروا / Yatawajab A'alaykoum alintizar	You have to wait	باید صبر(کنی) کنید	Πρέπει να περιμένετε [pɪ]/ πρέπει να περιμένεις / Prépi na periménete [pɪ]/ Prépi na periménis	Tu mecburî bisekinî	آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanji)	Urdu
كم يتوجب علينا الإنتظار هنا؟ / Kam yatawajab Aalayna al'intizar houna?	How long do we have to wait here?	برای چه مدت باید اینجا بمونیم؟	Πόσο πρέπει να περιμένουμε εδώ; / Póso prépi na periménume edó?	Ciqasî em mecburin li vir bisekinin?	ہمیں یہاں اور کتنی دیر انتظار کرنا ہو گا؟
يوم / yawm wáhid	one day	یکروز	Μία μέρα / Mía mera	Rojek	ایک دن
ساعة / sá'a wáhda	one hour	یک ساعت	Μία ώρα / Mía óra	Saetek	ایک گھنٹہ
شهر /	one month	یک ماہ	Ένας μήνας / Enas minas	mehek	ایک مہینہ
قريباً جدا / qaríban	very soon	خیلی زود	Πολύ σύντομα / Polí síndoma	Pir nêz de	بہت جلد
غداً / ghadan / Bokra	tomorrow	فردا	αύριο / avrio	sibê	کل
بعد غد / ba'ada ghad / Baid Bokra	the day after tomorrow	پس فردا	μεθαύριο / methávrio	du sibê	پرسوں
الأسبوع القادم / al 'usbou' al muqbel	next week	ہفتہ دیگہ	Την επόμενη βδομάδα / Tin epomeni vdomada	hefteya bê	اگلے ہفتے
سأعود قريباً / Sa'aoudou qariban	I will be back soon	زود برمی گردم	Θα επιστρέψω σύντομα / Tha epistrépsō sídoma	Ez ê di demeke nêz de vegerim	میں جلدی واپس آؤنگا
واحد / wahad	one	یک	ένα / éna	Yek	ایک
اثنان / itnen	two	دو	δύο / díō	du	دو
ثلاثة / talateh	three	سه	τρία / tríā	sê	تین
أربعة / arba'a	four	چهار	τέσσερα / téssera	çar	چار
خمسة / khamseh	five	پنج	πέντε / pénde	pênc	پانچ
سنة / sitteh	six	شش	έξι / éksi	şesş	چھ
ثمانية / tamaniyeh	eight	ہشت	οχτώ / októ	heşt	آٹھ
سبعة / saba'a	seven	ہفت	εφτά / eftá	heft	سات
تسعة / tisa'	nine	نه	εννέα / enéa	neh	نو
عشرة / a'shara	ten	ده	δέκα / déka	deh	دس
/, الإثنين	Monday	دوشنبہ	Δευτέρα / Deftéra	duşem	سوموار
/, الثلاثاء	Tuesday	سه شنبہ	Τρίτη / Tríti	seşem	منگل
/, الأربعاء	Wednesday	چار شنبہ	Τετάρτη / Tetárti	çarşem	بدھ
/, الخميس	Thursday	پنج شنبہ	Πέμπτη / Pémpiti	pênçşem	جمعرات
/, الجمعة	Friday	جمعہ	Παρασκευή / Paraskeví	în	جمعہ
/, السبت	Saturday	شنبہ	Σάββατο / Sávato	şemî	ہفتہ
/, الاحد	Sunday	یکشنبہ	Κυριακή / Kyriakí	yekşem	اتوار
/, كانون ثاني	January	ژانویہ	Ιανουάριος / Ianuários	çile	جنوری
/, شباط	February	فوریه	Φεβρουάριος / Fevrouários	sibat	فروری

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanji)	Urdu
/ آذار	March	مارس	Μάρτιος / Mártios	adar	مارچ
/ نيسان	April	آوریل	Απρίλιος / Aprílios	nîsan	اپریل
/ ايار	May	می	Μάιος / Máios	gulan	مئی
/ حزيران	June	ژوئن	Ιούνιος / Iúnios	hezîran	جون
/ تموز	July	جولای	Ιούλιος / Iúlios	tîrmeh	جولائی
/ آب	August	اوت	Αύγουστος / Ávgustos	tebax	اگست
/ ايلول	September	سپتامبر	Σεπτέμβριος / Septémvrios	îlon	ستمبر
/ تشرين أول	October	اوتکتر	Οκτώβριος / Októnvrios	cotmeh	اکتوبر
/ تشرين ثاني	November	نوامبر	Νοέμβριος / Noémvrios	mijdar	نومبر
/ كانون أول	December	دسامبر	Δεκέμβριος / Dekémvrios	kanun	دسمبر
الصحة / Sihha	Medical Terms	واژه های پزشکی	Ιατρικοί όροι / Iatrikí óri	Tenduristî	طبی الفاظ
/ انا بحاجة لطبيب / Bahtaj doktor / Bedi Doktor	I need a doctor	دکتر لازم دارم	Χρειάζομαι ένα γιατρό. / Hriázome éna giatró	Textorek lazim e ji bo min.	مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔
/ صحتی لیست علی مايرام / Lastu 'ala ma yuram/ Sihti mish kuwayseh	I feel sick/ I don't feel well	حالم خوب نیست	Μου έρχεται αναγούλα. / Mu érhete anagúla.	Dilê min dixelê.	میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے
/ أشعر بو عكة صحية / tifli marid	I'm ill / I'm sick	مريضم	Είμαι άρρωστος (m) / Είμαι άρρωστη (f) / Íme árostos [m]/ íme árosti [f]	Ez nexweş im	میں بیمار ہوں۔
/ طفلی مريض / Qalbi yata'lam	(My child) is sick	بچہ ام مريضه	(το παιδί μου) είναι άρρωστο / To pedí mu íne árosto	(Zarokê min) nexweş e	میرا بچہ بیمار ہے
/ انا حامل / Ana hámil	I am pregnant	من حامله ام	Είμαι έγκυος / Íme éngios	Ez ducanî me	میں حاملہ ہوں
/ عندی حساسية / Ahis bi dowar / Daych	I am having an allergic reaction	من یک واکنش آلرژي دارم	Έχω μία αλλεργική αντίδραση. / Ého mia allergikí antídralasi	Alerjiya min heye.	مجھے اس کی وجہ سے الرجی ہو رہی ہے
/ احس بدوار في رأسي / Indi hasasya	I feel dizzy.	سر م گیج میره	Ζαλίζομαι / Zalízome	Ez gêj im	مجھے چکر آ رہے ہیں
/ عندی مرض السكر / indi mard sukari	I am diabetic	من مريضی ديابت/شکر دارم	Έχω διαβήτη / Eho diaviti	Şekirê min heye	میں ذیابیطس ہوں
/ انا بحاجة ماسة إلى إنسولين / ana behaje masse ela ansulin	I need insulin	به انسولين نیاز دارم	Χρειάζομαι ινσουλίνη / Hriazome insulíni	Insulin ji bo min hewce ye.	مجھے انسولين چاہیے

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanji)	Urdu
لقد اغتصببت / Lakad tamma Ightissabi / Eghtassabouni	I was raped.	به من تجاوز جنسی شدہ است	Με έχουν βιάσει / Me ékhun viási	Tecawizî min kirin	میری عزت لوتی گئی
عندی الم فی بطنی / indi alam fi batni	I have a stomach ache.	دل درد دارم	Πονάει η κοιλιά μου / Poná i killiá mu	Zikê min diêşe	میرے پیٹ میں درد ہے۔
عندی حرارة / Himma	I have a fever / a temperature	تب دارم	Έχω πυρετό / Ého piretó	Germ/ Germa laşê min heye	مجھے بخار ہے۔
اعاني من صداع في الرأس / indi suda / Ou'ani min soudaa fi alrass	I have a headache	سر درد دارم	Έχω πονοκέφαλο / ého ponokéfaló	Serê min diêşe	میرے سر میں درد ہے۔
عندي سعال / ladaya sou'al	I have a cough.	سرفہ میکنم	Έχω βήχα / Βήχω / ého víkha	Kuxika min heye	مجھے کھانسی ہے۔
طفلي عنده سعال / حلقه / tefli indouhou sou'al	My child has a sore throat/ cough	بچہ من سرفہ میکنہ - گلو درد دارہ	Το παιδί μου έχει πονόλαιμο / βήχα / Το pedí mu éhi ponólemo / víha	Qirika zaroka min diêşe/ Zaroka min dikuxê	میرے بچے کا گلہ خراب / کھانسی ہے
رشح/زكام / Rashih/Zukam	cold	سرما خوردگی	κρυολόγημα / kriológima	Bapêş	زکام
إسهال / alishsal	diarrhea	اسہال	διάρροια / diária	Hinavêşî	دست
إمساك / al'imssak	constipation	یبوست	δυσκοιλιότητα / diskiliótita	qebziti	قبض
التهاب فطري مهبلتي / Iltihab Fetri mihbali	vaginal yeast infection (thrush)	عفونت قارچی واژن	Κολπική μυκητίαση/καντιντίαση / Kolpikí mykitíasi/kantintí asi	Bîrova vajîna	خمیر انفکشن
إصابة فطرية في القدم / Qadam al riyadi	athlete's foot	قارچ پا	μύκητες / míkites	Bîrova pî	کھلاڑی کے پاؤں کا انفکشن
قمل في الرأس / Qamel elrass	head lice	شپش	ψείρες στο κεφάλι / psires sto kefáli	Sipîyê serî	سر کی جویں
/			/		
طعام / Taa'm	Food	غذا	Φαγητό / Fagitó	Xwarin/xurik	کھانا
الغداء / Ghadaa'	Lunch	ناہار	μεσημεριανό / mesimeriano	firavîn	دوپہر کا کھانا
العشاء / Ashaa'	Dinner	شام	Δείπνο, βραδινό / dipno, vradino	şîv	رات کا کھانا
هل هذا الطعام حلال؟ / hal hadha 't-ta'am halal / Had Akel Halal	Is this food Halal?	این غذا حلالہ؟	Είναι το φαγητό Χαλάλ; / íne to fagitó Halal?	Ev xwarin helal e gelo?	کیا یہ کھانا حلال ہے؟
...انا عندي حساسية ضد / Ana 'endi hasasiyah did....	I am allergic to....	بہ...آلرژی دارم	Έχω αλλεργία στο.. / Ého alergía sto...	Alerjîya min ji bo...heye.	مجھے ... سے الرجی ہے۔
لحم خنزير / lahem khanzir	pork	گوشت خوک	χοιρινό / hirinò	goştê beraz	سور کا گوشت
طيور / Dawajen	poultry	گوشت پرندہ	πουλερικά / pulerika	heywanên biper	مرغی

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanji)	Urdu
أنا لا أكل لحم الخنزير / la akol lahem alkhanzir	I do not eat pork	من گوشت خوک نمیخورم	Δεν τρώω χοιρινό / Den tróo hirinó	Ez goştê beraz naxwim	میں سور کا گوشت نہیں کھاتا
أنا نباتي لا أكل لحمة ولا سمك / ana nabáti	I am a vegetarian. I don't eat meat and fish.	گوشت و ماهی نمیخورم	Είμαι χορτοφάγος. Δεν τρώω κρέας και ψάρι. / íme hortofágos. Den tróo kréas ke psári.	Ez vejeterianeke me	میں صرف سبزی کھاتا ہوں۔ مجھے گوشت یا مچھلی نہیں چاہیے
أنا خضري / Ana fighan	I am a vegan	ویگن ہستم، هیچ محصولات از حیوانات نمیخورم	Είμαι βίγκαν / íme vígan	Ez vejeteryan e	میں صرف سبزی اور پھل کھاتا ہوں
سمك / - Samak	fish	ماهی	ψάρι / psári	masî	مچھلی
خبز / AL khubz / 'aysh	bread	نان/نون	ψωμί / psomî	nan	روٹی
ماء / m'a, miyah / Mai	water	آب	Νερό / Neró	Av	پانی
ليموناضة / limonada	lemonade	ليموناد	λεμονάδα / lemonáda	lîmonata	نیبویانی نیبو کا شربت /
حليب / Al labn/al halib	milk	شیر	γάλα / gála	şîr	دودھ
قهوة / Al qahwa	coffee	قهوه	καφέ / kafè	qahwe	کوفی
فلفل / Flailfle	pepper (herb)	فلفل	πιπεριά / piperia	îsota reş	مرچ
شاي / Al shaay	tea	چایی	τσάι / tsài	çay	چائے
بيرة / Al-beera	beer	آب جو	μπύρα / mpira	bîre	بیئر
فاكهة / Fakiha	fruit	میوه	φρούτα / frouta	fêkî	پھل
تفاح / Al tufah	apple	سیب	μήλο / milo	sêv	سیب
اجاص / Alijas/ Kamthari	pear	گلابی	αχλάδι / ahladi	hirmî	ناشپاتی
جربيفروت / AL grib fruit	grapefruit	گریپ فروت	γκρέιπφρουτ / grapefruit	zîbal	گریپ فروٹ / چکوترا
مشمش / AL mushmush	apricot	زرد آلو	βερίκοκο / verikoko	mişmiş	خوبانی
بطاطا / Battatta	potatoes [pl]	سیب زمینی	πατάτες / patâtes	patat/kartol	آلو
فاصوليا خضراء / Fasoulia'a / Foul	beans [pl]	لوبیا	φασόλια / fasolia	fasûlf	لوبیا
بازلاء / Bazila	peas [pl]	نخود	αρακάς / arakas	şoqîl	مٹر
حمص / Hommos	chickpeas [pl]	نخود فرنگی	ρεβύθια / revithia	nok	چھولا / چنے
بادنجان / batnjan	eggplant (US) / aubergine (UK)	بادمجان	μελιτζάνα / melitzana	balcan/bacanê reş	بینگن
جزر / Jazar	carrots [pl]	ھویچ	καρότα / karota	gizêr	گاجر
طماطم(بنادورة) / Tamatem / Banadoura	tomatoes [pl]	گوجه فرنگی	ντομάτες / domates	fringî	ٹماٹر
لفت / Lefft	turnip	شلغم	ραπανάκι / rapanaki	şêlim	شلجم

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanji)	Urdu
طحين / taheen	flour	آرد	αλεύρι / alevri	ard	آٹا
عسل / Aassal	honey	عسل	μέλι / meli	hingiv	شہد
جبنة / Jobn	cheese	پنیر	τυρί / tiri	penêr	پنیر / چیز
لبنة / Jobn Qarish	quark / cottage cheese	پنیر روستایی	cottage cheese / cottage cheese (same as in english)	şîre qusandî yê tîr	پنیر
فلفل أخضر / Flailfle	paprika	فلفل دلمه ای	πάπρικα / paprika	dermanê germ	لال مرچ
صلصة / Salsa	sauce	سس	σάλτσα / saltsa	sos	شوربه
زبدة / Zoubda	butter	کره	βούτυρο / vutiro	nivîşk	مگهن
زيت / Zait	oil	روغن	λάδι / ladi	rûn	تیل
علكة(لبان) / E'lka	chewing gum	آدامس	τσίχλα / tsihla	benîşt	چیونگ گم / بیل گم
ملعقة / ma'laka	spoon	قاشق	κουτάλι / kutali	kevçî	چمچا
سكين / sekena / Sikkin	knife	چاقو	μαχαίρι / maheri	kêr	چاقو
طبق / tabak / sahen	plate	بشقاب	πίατο / piato	sênîk, teyfik	پلیٹ
كأس / Koubaya / Kasse	glass (to drink from)	لیوان	ποτήρι / potiri	qedeh / berçavk	گلاس
كاسة / Kassa	mug	فنجان	κούπα / kupa	qedeha lastîk	مگ
ابريق شاي / Ebrek shaye	teapot	قوری	τσαγιέρα / tsagiéra	çaydan	چائے دانی
/			/		
Awa-i Malabes / ملابس	Clothing	لباس	Ρούχα / Rouha	Cil	کپڑے
قميص / qamis	shirt	بلوز(پیراهن)	πουκάμισο / pu'kamiso	Gomlek	قمیض
فستان / fustan	Dress	لباس	φόρεμα / fórema	Kiras	لباس/ کپڑے
تنورة / Tanoura	skirt	دامن	φούστα / foosta	Eteg	اسکرٹ
بُنطال /سروال / Bantalon	trousers (UK) / pants (US)	شلوار	παντελόνι / panteloni	Şal	پینٹ / پتلون
كنزة صوف / kanzet souf	jumper (UK) / sweater / pullover	پلور	پουλóβερ / poulover	fanêre	سویٹر
جاكيت /معطف / Mi'itaf	jacket / coat	ژاکت	ζακέτα-παλτό / zaketa- palto	çakêt	جیکٹ
حجاب / Hijab / Khimar	veil / hijab / headscarf	روسری/حجاب	πέπλο / μαντήλα / replo / madíla	demsal	حجاب / ڈپٹا / نقاب
حذاء / Ahzia/ sabbatat	shoes [pl]	کفش	παπούτσια / paputsia	sol	جوتے
قفازات / Qafazat	gloves [pl]	دستکش	γάντια / gantia	cepik	دستانے/گلوڑ
كلسات / kalsat	socks [pl]	جوراب	κάλτσες / kaltse	gore	موزے
ملابس داخلية / Malabis Dakhiliya	underwear	لباس زیر	εσώρουχα / esoruha	bincilik / Derpî	انڈر وینر / جانگھیا / اندرونی کپڑے
/			/		

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmanji)	Urdu
أثاث / athath	Misc	متفرقه	Διάφορα / Diafora	Yên din	اور چیزیں
سریر / Takhet / Sarrir	bed	تخت	κρεβάτι / krevati	nivîn	بستر / پلنگ
بطانية / bataneya	blanket	پتو	κουβέρτα / kouverta	betanî	کمبل
مصباح / misbah / lamba	lamp	لامپ	λάμπα / lampa	lambe	لامپ
تلفون - هاتف / Telephon / Jawal / Hatef	telephone	تلفن	τηλέφωνο / tilefono	telefon	ٹیلی فون
هاتف جوال / Jawal / Mobile	mobile phone / cellphone	مبایل	κινητό τηλέφωνο / kinito tilefono	telefuna desta	موبائیل فون
كهرباء / Kahraba	electricity	برق	ηλεκτρισμός / ilektrizmos	ceyran	بجلی
كمبيوتر , حاسوب / Hassoub/ kombuter	computer	کامپیوتر	υπολογιστής / upologistis	komputer	کامپیوٹر
اتصال بالانترنت / Etesal bl internet	internet connection	انترنت	διαδικτυακή σύνδεση / diadiktiaki sindesi	giredana internetê	انٹرنٹ کنکشن
بطارية / Battariya	battery	باطری	μπαταρία / bataria	pîl	باتری
غرفة / Ghourfah	room	اتاق	δωμάτιο / domatio	ode	کمرہ
كرسي / Kourssi	chair	صندلی	καρέκλα / karekla	kursî	کرسی
طاولة / Tawla	table	میز	τραπέζι / trapezi	mase	میز
حمام / hammam	toilet	توالت / دستشوی	τουαλέτα / toualeta	tuwalet	غسل خانہ / ٹویلت
ورق تواليت / Warak tawalet	toilet paper	کاغذ توالت	χαρτί τουαλέτας / harti tualetas	paçikên tuwaletê	ٹویلت کا کاغذ
فرشاة اسنان / fourchat assnan	toothbrush	مسواک	οδοντόβουρτσα / odontovurtsa	firça dirana	دانت مانجھنے کا برش
معجون اسنان / maajoun assnan	toothpaste	خمیر دندان	οδοντόπαστα / odontopasta	macuna dirana	ٹوٹھ پھسٹ / دنت منجن
دوش / hamam/ dush	shower	دوش	ντους / duz	duş	شاور
مغسطس / Maghtas	bathtub	وان حمام	μπανιέρα / baniera	kuwet	ٹب
صابون / sabona	soap	صابون	σαπούνι / sapouni	sabun	صابن
شامبو / shampoo	shampoo	شامپو	σαμπουάν / sampuan	şampuan	شامپو
محارم ورقية / maharem / mandil	tissue / handkerchief	دستمال کاغذی	χαρτομάντηλο / hartomantilo	paçikên desta	رومال
خزانة / Khizana	cupboard	کمد	ντουλάπι / dulapi	dolab	الماری / کابینٹ
باب / Bab	door	درب	πόρτα / porta	derî	دروازہ
نافذة / Nafeza/shebbak	window	پنجرہ	παράθυρο / parathiro	pace	کھڑکی

Arabic	English	Farsi	Greek	Kurdish (Kurmançî)	Urdu
حائط / Ha'et	wall	دیوار	τοιχος / tihos	dîwar	دیوار
منزل / Manzel	house	خانه	σπίτι / spiti	mal	مکان
شقة / Sha'a	apartment / flat	آپارتمان	διαμέρισμα / diamerisma	avahî	فلپٹ
كتاب / Ketab	book	کتاب	βιβλίο / vivlio	pirtûk	کتاب
جريدة / Jaredeh	newspaper	روزنامه	εφημερίδα / efimerida	rojname	اخبار
مذياع / راديو / Mzyaa / Radio	radio	راديو	ραδιόφωνο / radiophono	radyo	ریڈیو
تلفاز / رائی / Telfaz	television	تلویزیون	τηλεόραση / tileorasi/TV	televîzyon	ٹیلی ویژن

Links

Useful links for refugees in Greece

ASYLUM

http://asylo.gov.gr/en/?page_id=84

RELOCATION PROGRAM

http://asylo.gov.gr/en/?page_id=824

<http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-legal.en.htm>

FAMILY REUNIFICATION from Greece to other countries:

<http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-family.en.html>

<https://refunite.org/>

TRACING PEOPLE

RED CROSS, Sector of Tracing People

3rd September Street 21, Athens

Tel: 210-52.42.194 or 210-52.30.043

Fax: 210-52.37.700

E-mail: tracingstaff@redcross.gr

FREE LEGAL HELP

<http://www.refugeelegalaidinformation.org/greece-pro-bono-directory>

FREE MEDICAL CARE

<http://bit.ly/clinicfinder-greece>

DIFFERENT USEFUL CONTACTS

<http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-contacts.en.html>

ORIENTATION AND LINKS

<http://www.first-contact.org/>

This booklet is based on data from the community project "Refugee Phrasebook".

At refugeephrasebook.de you find other language resources. All content can be copied, adapted and redistributed freely (Creative Commons License, CC0). Something to be changed/added? Please contact us at feedback@refugeephrasebook.de. Thanks!